

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
یقیناً نماز بدیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔

(العنکبوت: ۴۶)

NEWSLETTER
January & February 2024
Lajna Ima'illah Finland
Volume 8 Issue 1

القرآن

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٤﴾

جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

Who believe in the unseen and observe
Prayer, and spend out of what We have
provided for them;

Al-Baqarah, Verse 4

ارشادِ نبوی ﷺ

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مَنْ عَبْدَهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْرًا
سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہارا رب بہت باحیاء اور کریم (کرم والا) ہے، جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔“

Hazrat Salman al-Farisira relates that Allah's Messenger (sa) said:

“Verily, your Lord is Modest and Munificent. He is ashamed to turn down His servant empty handed when he raises his hands to Him (in supplication).”

(Sunan Abi Dawud, Kitab al-Witr, Hadith 1488)

ارشاد حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

سیدنا امیر المؤمنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس

ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں
☆... رمضان کے مہینے میں مساجد میں درس کا انتظام ہوتا ہے اسی طرح ایم ٹی اے پر بھی انتظام ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے

☆... رمضان میں تو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے، سننے سنانے، عبادات اور ذکر الہی کی طرف توجہ ہونی چاہیے

☆... تقویٰ دنیاوی آلائشوں سے پاک کرتا ہے اس لیے تقویٰ کا حصول ہر مومن کا اولین فرض ہونا چاہیے

☆... جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں روزہ رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے

☆... نجات خدا تعالیٰ کے فضل سے ہے نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے

☆... رمضان المبارک میں احباب جماعت کو دعاؤں کی خصوصی تحریک

تمام دنیا کے احمدی جماعتی ترقیات کے لیے اور مشکلات کے دور ہونے کے لیے بھی دعا کریں۔

حکومتوں اور ہر شریک کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اسیران کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ دعا بھی کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دامن ایسا پکڑیں کہ کبھی ہماری کسی لغزش کی وجہ سے یہ دامن نہ چھوٹے۔ مسلمان دنیا کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے اور یہ آنے والے مسیح موعود کو قبول کرنے والے ہوں۔ جنگوں کے بد اثرات سے بچنے کے لیے بھی دعا کریں۔ مسلمان ممالک میں اقتدار کے لیے جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں۔

دنیا کے عمومی حالات کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جنگ اور اس کے بد اثرات سے بھی سب کو بچائے۔ ظاہر ہے جنگ ہوگی تو احمدی بھی اس سے متاثر ہوں گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی سب کو محفوظ رکھے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی ہر احمدی کو اپنے تقویٰ کا معیار بلند کرنا ہوگا۔

یہاں یو کے میں بھی مسلمانوں کے گرد دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور یہاں کے باقی مسلمانوں کو بھی ان کے بد اثرات سے محفوظ رکھے۔ آمین

خطبہ جمعہ فرمودہ 16 مارچ 2024ء

ایامِ رمضان کے لئے خاص دعائیں

پہلا عشرہ رحمت

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ۔

اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے

دوسرا عشرہ مغفرت

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔

میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف جھکتا ہوں۔

تیسرا عشرہ نجات

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاغْفِرْ عَلَيْنَا۔

اے اللہ! یقیناً تو بہت زیادہ عفو و درگزر کرنے والا ہے اور تو عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے

پس تو مجھ سے عفو اور درگزر سے کام لے۔

قرآن تجوید کلاس کے جائزہ میں نمایاں کامیابی

پیاری لجنہ و ناصرات الحمدیہ فن لینڈ

امسال قرآن کریم تجوید کلاس کے جائزہ میں جن خوش نصیب لجنات نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

1. محترمہ مہک چوہدری صاحبہ

2. محترمہ سعدیہ شہزاد صاحبہ

3. محترمہ ریحانہ کوکب صاحبہ

4. محترمہ زرگس یونس صاحبہ

5. محترمہ سدرہ شوکت صاحبہ

آپ کی یہ لگن اور وقت کی قربانی یقیناً قابل ستائش ہے۔ لہذا آپ کی ان کاوشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے نام ماہانہ نیوز لیٹر میں شائع کیے جا رہے ہیں۔ ماہانہ نیوز لیٹر میں آپ کے ناموں کا شامل ہونا آپ کی مسلسل کوششوں کا ایک مستند اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب بہنوں کے لیے یہ اعزاز مبارک فرمائے اور مزید کامیابیوں سے نوازے آمین۔

جنوری صحت جسمانی ٹارگٹ

محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ماہ صحت اور جسمانی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے فٹنس چیلنج کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں ہفتہ وار مختلف ورزش ٹارگٹ دیئے گئے جس میں روزانہ ۵ سے ۱۰ ہزار قدم چلنا اور روزانہ ۸ گلاس پانی پینا، پھل اور سبزیاں کھانا شامل تھا۔ اس ماہ سپورٹس ہال میں بھی کھیلوں کا انتظام کیا گیا جس میں بچے، ناصرات اور لجنات شامل تھیں۔ سپورٹس ہال میں بیڈمنٹن اور باسکٹ بال کی گیم کروائی گئی۔ اس ماہ فٹنس ٹارگٹ کو مکمل کرنے والی لجنات کے نام درجہ ذیل ہیں۔

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. فائرہ بشریٰ | 6. نرگس یونس |
| 2. عروبہ نسیم | 7. مہوش ملک |
| 3. شائستہ تسنیم | 8. عائشہ خلیل |
| 4. فاطمہ الزہراء | 9. امہ الراح |
| 5. ریحانہ کوکب | 10. نمرہ مقبول |

تندرستی ہزار نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیں اور ہر ماہ کے ورزش ٹارگٹ میں حصہ لیں۔

نیشنل شعبہ صحت و جسمانی

مینابازار 2024

مورخہ 18 فروری 2024 کو لجنہ اماء اللہ کو اپنا مینابازار منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ جو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کامیاب رہا۔ الحمد للہ۔



مینابازار میں شاملین کی تعداد 54 رہی جس میں 36 لجنات 6 ناصرات 12 بچے شامل ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 13 مہمانوں نے بھی شرکت کی، جن میں 4 بچے بھی شامل تھے۔

مینابازار میں مختلف اسٹالز لگائے گئے مثلاً فوڈ اسٹال، ٹی اینڈ کیک، سویٹس، صنعت و دستکاری، اور اس کے علاوہ جیولری اسٹالز شامل تھے۔ لجنہ کی سہولت کے پیش نظر آن لائن شرکت کی سہولت بھی موجود تھی۔





خدمت خلق رپورٹ

محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے شعبہ خدمت خلق مجلس ہیلسنکی کو امسال اولڈ ہوم کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ اس سلسلہ میں انچارج اولڈ ہوم سے رابطہ کیا گیا جن سے جماعتی تعارف کے بعد اولڈ ہوم کے دورہ کی اجازت مانگی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اجازت مل گئی۔

صدر صاحبہ مجلس ہیلسنکی عالیہ کنول صاحبہ نے بزرگوں کو تحائف دیئے جس سے بزرگ بہت خوش ہوئے۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش قبول فرمائے اور آئندہ مزید بہتر رنگ میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین



Ramadan Target for lajnaat & kids

The blessed month of ramadan is going on. To properly benefit of Ramadan's blessings, a few targets for lajna and kids have been set.

(The targets are shared in the posters)

Encourage yourself and your family members to achieve these targets and gather all the blessings possible from Ramadan.

May Allah enable us to observe our fasts and our prayers in the best way possible.

Ameen summa Ameen

JazakAllah

Taleem department

Kanza Mehmood



In this Ramadan, challenge yourself to be a better person.

- 
1
Finish 1 cycle of the Holy Quran with or without translation
- 
2
Offer 2 rakaat of tahajjud everyday
- 
3
Revise last surahs of the Holy Quran

Note: Please send your names to your Secretary Taleem/Tarbiyyat once you have completed the target

Ramadan Target for Nasirat

The blessed month of ramadan is going on. To properly benefit of Ramadan's blessings, a few targets for Nasirat have been set.

Ramzan Targets

Nasirat:

- 1. Mayar-e-awal: 10 supara of Quran Nazra**
- 2. Mayar-e-Doem: 5 supara of Quran Nazra**
- 3. Mayar-e-Soem: 2 supara of Quran Nazra.**
- 4. Make a chart for the month of Ramadan and for Eid.**

You can send the chart to me when it's done.

All Nasirat who will participate will get a prize

Encourage yourself and your family members to achieve these targets and gather all the blessings possible from Ramadan.

May Allah enable us to observe our fasts and our prayers in the best way possible.

Ameen summa Ameen

JazakAllah

Sec Nasirat

Faiza Muneer

ضروری اعلانات

پیاری لجنہ اما اللہ و ناصرات الحمدیہ فن لینڈ

آپ کے اپنے رسالے مبارکہ کا دوسرا شمارہ شائع ہونے جا رہا ہے۔ الحمد للہ۔ اس کے لیے آپ سب سے قلمی تعاون کی درخواست ہے۔ اپنی قلمی کاوشیں ہمیں بھجوائیں، جن میں اردو، فنش زبان میں مضامین، نظمیں، کہانیاں، لطیفے، کھانے کی ترکیبیں، اور ٹونکے وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ احسن الجزاء۔ اپنی قلمی کاوشیں مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پر بھجوائیں۔

magazine@lajna.fi

Dear Lajna Ima'illah and Nasiraat Ul Ahmadiyya Finland

The second issue of your own magazine "Mubaraka" is going to be published. Alhamdulillah. For this, you are requested to contribute your writings. Send us your writings, including articles, poems, stories, jokes, food recipes and tips in Urdu and Finnish. JazakAllah- Ahsanaljaza.

Send your writing efforts to the following e-mail address

magazine@lajna.fi